



ایک آدمی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے ”السلام علیکم“ کہا، نبی ﷺ اس کا جواب دیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا دس (نیکیاں)، دوسرا آیا اور اس نے ”السلام علیکم ورحمہ اللہ“ کہا، نبی ﷺ اس کا بھی جواب دیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا بیس۔

عمران بن حُصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے ”السلام علیکم“ کہا، نبی ﷺ اس کا جواب دیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا دس (نیکیاں)، دوسرا آیا اور اس نے ”السلام علیکم ورحمہ اللہ“ کہا، نبی ﷺ اس کا بھی جواب دیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا بیس، پھر تیسرا آیا اور اس نے ”السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ“ کہا، نبی ﷺ اس کا بھی جواب دیا اور جب وہ بیٹھ گیا تو فرمایا تیس۔

[حسن] [اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے] - [اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے] - [اسے امام احمد نے روایت کیا ہے] - [اسے امام دارمی نے روایت کیا ہے]

نبی ﷺ پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا ”السلام علیکم“ آپ نے اس کا جواب دیا پھر وہ بیٹھ گیا تو نبی ﷺ نے خبر دیا کہ اس نے دس نیکیاں لکھی گئی ہیں، جو شخص اس جملہ کو کہے گا اس کے لیے اجر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے اپنی طرف سے مزید دے سکتا ہے، پھر دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا ”السلام علیکم ورحمہ اللہ“ آپ نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا نبی ﷺ نے فرمایا اس کے لیے بیس نیکیاں لکھی گئی ہیں، کیونکہ اس نے پہلے شخص کے مقابلے ”رحمہ اللہ“ کا اضافہ کیا، پھر تیسرا آدمی آیا اس نے کہا ”السلام علیکم ورحمہ اللہ وبرکاتہ“ آپ نے اس کا جواب دیا وہ بیٹھ گیا نبی ﷺ نے فرمایا اس کے لیے تیس نیکیاں لکھی گئی ہیں، یہی سلام کہ صیغوں کا آخری حصہ ہے۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3587>